

کیش بک کے بینک سے شروع کر کے

کیش بک کے بینک سے شروع کر کے ⇒ جہاں کیش بک میں بینک بیلنس ڈیبٹ ہو، یعنی بینک تاجر کا دین دار ہو، ایسی صورت میں پاس بک کے بیلنس سے تطابق پیدا کرنے کے لئے ان تمام چیکوں کی رقوم کو کیش بک کے بینک بیلنس میں جمع کیا جائے جو تاجر نے جاری کئے لیکن ابھی تک بینک سے ان کی ادائیگی نہیں ہوئی۔

وصولی

ان تمام چیکوں کی رقوم کو اسی بیلنس نے منہا کیا جائے، جو تاجر نے بینک میں جمع کروائے لیکن ابھی تک بینک میں ان کی وصولی نہیں ہوئی۔

کمیشن

اگر بینک نے تاجر کے کھاتہ میں کوئی کمیشن یا اخراجات ڈیبٹ کئے، جن کا کیش بک میں کوئی اندراج نہیں تو انہیں اسی دیئے گئے بیلنس سے منہا کیا جائے۔

سود

اگر بینک نے تاجر کے کھاتہ کو کسی منافع یا سود سے کریڈٹ کیا ہو جن کا اندراج کیش بک میں نہیں تو انہیں دیئے گئے بیلنس میں جمع کیا جائے۔

بینک کا کھاتہ

جہاں کیش بک بینک کا کھاتہ کریڈٹ بیلنس ظاہر کر رہا ہو یعنی بینک تاجر دار ہو تو ایسی صورت میں بیلنس پاس بک کے بیلنس سے تطابق پیدا کرنے کے پیرا (الف) میں دیئے گئے طریقہ کا الٹ کیا جائے گا۔ یعنی ان تمام چیکوں کی رقموں کو کیش بک کے بینک بیلنس سے منہا کریں جو تاجر نے جاری کئے لیکن ابھی تک بینک سے ان کی ادائیگی نہیں ہوئی۔

بیلنس

ان تمام چیکوں کی رقموں کو اس دیئے گئے بیلنس میں جمع کریں جو تا جز نے بینک میں جمع کروائے لیکن ابھی تک بینک میں ان کی وصولی نہیں ہوئی۔

اخراجات

اگر بینک نے تاجر کے کھاتہ میں کوئی کمیشن یا اخراجات ڈیبٹ کئے جن کا کیش بک میں کوئی اندراج نہیں تو انہیں دیئے گئے بیلنس میں جمع کیا جائے گا۔

ذکر

اگر بینک نے تاجر کے کھاتہ میں کوئی منافع یا سود کریڈٹ کیا ہے جس کا کیش بک میں ذکر نہیں تو انہیں دیئے گئے بیلنس سے منہا کیا جائے۔

پاس بک کے بیلنس سے شروع کر کے

اگر پاس بک ڈیبٹ بیلنس ظاہر کرے تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ کھاتہ دار یا تاجر بینک کا دین دار ہے۔ یعنی تاجر نے بینک سے جمع شدہ رقم سے زائد نکلوائی ہے۔ ایسی صورت میں پاس بک کے بیلنس کی کیش بک میں بینک بیلنس سے تطابق پیدا کرنے کے لئے وہی عمل دہرائیں گے جو اوپر دیئے گئے طریقہ اول کے پیرا (الف) میں دیا گیا ہے: یعنی

ان چیکوں کی رقوم

ان چیکوں کی رقوم کو پاس بک کے بیلنس میں جمع کیا جائے گا جو تاجر نے جاری کئے لیکن بینک سے ان کی ادائیگی نہیں ہوئی۔

منہا

ان چیکوں کی رقوم کو پاس بک کے بیلنس سے منہا کیا جائے گا جو تاجر نے جمع کروائے لیکن ابھی تک بک میں ان کی وصولی نہیں ہوئی۔

تاجر کو علم

اگر بک نے تاجر کے کھاتہ میں کوئی کمیشن یا معاوضہ یا اخراجات ڈیٹ کئے جس کا تاجر کو علم نہیں تو وہ پاس بک کے بیلنس سے منہا کیا جائے۔

منافع

اگر بک نے تاجر کے کھاتہ میں کوئی منافع یا سود کریڈٹ کیا جس کا کیش بک میں ذکر نہیں تو اس پاس بک کے بیلنس میں جمع کیا جائے گا۔

عمل

اگر پاس بک کریڈٹ بیلنس ظاہر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تاجر یا کھاتہ دار بک کا لین دار ہے۔ ایسی صورت میں بینک کی کیفیت نامہ تطابق کی تیاری (الف) کے لئے وہی عمل دہرائیں گے جو اوپر دیئے گئے طریقہ اول کے پیرا (ب) میں دیا گیا ہے۔ یعنی

بک سے ان کی ادائیگی

ان چیکوں کی رقوم کو پاس بک کے بیلنس سے منہا کیا جائے گا جو تاجر نے جاری کئے لیکن بک سے ان کی ادائیگی نہیں ہوئی۔

جمع کروانا

ان چیکوں کی رقوم کو اس بیلنس میں جمع کیا جائے گا جو تاجر نے بک میں وصولی کے لئے جمع کروائے لیکن ابھی تک ان کی وصولی نہیں ہوئی۔

بیلن

اگر بک نے تاجر کے کھاتے میں کوئی کمیشن یا اخراجات ڈیٹ کئے جس کا تاجر کی کیش بک میں کوئی ذکر نہیں تو انہیں پاس بک کے بیلن میں جمع کیا جائے گا۔

بک کا بیلنس

اگر بک نے تاجر کے کھاتہ میں کوئی سود یا منافع کریڈٹ کیا جس کا کیش بک میں ذکر نہیں تو اسے پاس بک کے بیلنس سے منہا کیا جائے گا۔

درج ذیل حقائق

درج ذیل حقائق آپ کے ایک کلائنٹ ظہیر کے کاروبار سے متعلق ہیں جنہوں نے آپ سے بینک پاس بک بیلنس کو اس کے کیش بک بیلنس کے ساتھ ملانے کا مطالبہ کیا

مثال 4

کیش بک کے مطابق بیلنس (اوور ڈرافٹ)

غیر پیش کردہ چیک

غیر کریڈٹ شدہ چیک

اس کے علاوہ آپ مندرجہ ذیل کی تصدیق کرتے ہیں

آٹھ ہزار

چودہ سو چالیس

بارہ سو

ادا کردہ

محسن کو ادا کردہ دو سو - کا چیک غلطی سے داخل ہو گیا ہے۔

نقد کالم

کیش بک میں اسی - روپے کا بینک کمیشن درج نہیں کیا گیا ہے۔

کیش بک (بینک کالم) کا ڈیٹ سائیڈ پانچ سو - روپے سے کم ہے۔

حل

ظہیر صاحب بینک مصالحتی بیان

آٹھ سو	سی آر	کیش بک کے مطابق بیلنس
اسی		شامل کریں: بینک کمیشن
بارہ سو		غیر کریڈٹ شدہ چیک
دو سو		کیش کالم میں غلطی سے داخل ہو گیا۔
چودہ سو چالیس		کم: غیر پیش کردہ چیک
پانچ سو		کیش بک کا ڈیبٹ سائیڈ انڈر کاسٹ
تین سو چالیس	ڈی آر	بینک اسٹیٹمنٹ کے مطابق بیلنس

مثال 5

کو مسٹر نور احمد کے بینک اسٹیٹمنٹ میں 20,500/- روپے کا ڈیبٹ بیلنس دکھایا گیا لیکن یہ کیش بک کے مطابق بیلنس سے متفق نہیں ہے۔ 2018-3-31 فرق کی تحقیقات سے درج ذیل معلومات ملتی ہیں۔

رقم کے چیک

کی رقم کے چیک 2018-3-23 کو جاری کیے گئے تھے جن میں سے 5500/- کے چیک 2018-3-31 تک جاری کیے گئے تھے۔ 7800/-

بینکر کی طرف

بینک اسٹیٹمنٹ میں بینکر کی طرف سے 400/- روپے کا غلط ڈیبٹ دیا گیا تھا۔

بینک کے ذریعے

سو روپے کا چیک بینک کے ذریعے جمع کرایا گیا لیکن کیش بک میں درج نہیں کیا گیا۔

وصولی کے لیے

وصولی کے لیے 10,500/- روپے کے چیک جمع کرائے گئے۔ لیکن 2018-3-31 تک 3,700/- کے چیک پاس بک میں جمع ہو چکے ہیں۔

چیک بے عزت لوٹا کر

پچاس روپے کا چیک بے عزت لوٹا کر کیش بک میں درج نہیں تھا۔

سود اور بینک چارجز

سود اور بینک چارجز کی رقم 50/- روپے بنک اسٹیٹمنٹ میں درج کی گئی تھی لیکن کیش بک میں درج نہیں تھی۔

ڈھائی سو-روپے کا چیک کیش بک میں ڈیبٹ کیا گیا لیکن بینک میں ادا نہیں کیا گیا۔

درکار ہے: ایک بینک مصالحتی بیان تیار کریں۔ 2018 3-31

نور احمد صاحب بینک مصالحتی بیان مارچ 2018 کے مہینے کے لیے

بیس ہزار پانچ سو	ڈی آر	بینک اسٹیٹمنٹ کے مطابق بیلنس
دو ہزار تین سو		شامل کریں: غیر پیش کردہ چیک
سو		بینک کے ذریعے کریڈٹ شدہ چیک
پچاس		بے عزتی کا چیک
چار سو		کم: بینک کے ذریعے غلط طریقے سے ڈیبٹ کیا گیا۔
چھ ہزار آٹھ سو		غیر کریڈٹ شدہ چیکس
پچاس		سود اور بینک چارجز

پندرہ ہزار چار سو پچاس

سی آر

کیش بک کے مطابق بیلنس

بینک کی کیفیت نامہ تطبیق تیار کرنے کا آسان فارمولہ مندرجہ ذیل ہے۔

مثال نمبر 6

پہلے دی گئی اعزاز کار پوریشن کی مثال کا پھر مطالعہ کرتے ہیں اور اس سے اخذ کی ہوئی معلومات سے اس کا بنکی کیفیت نامہ تطابق تیار کرتے ہیں۔

کیش بک میں بنک بیلنس

کیش بک میں بنک بیلنس 201,000 روپے ڈیٹ بنک لیجر یا پاس بک میں بیلنس 178,000 روپے کریڈٹ

مزید معلومات

بائیس جون کو فیصل برادر کے نام 75,000 روپے کا چیک اور 30 جون کو کرایہ ادائیگی کا 20,000 روپے کا چیک جاری کیا لیکن ابھی تک بنک سے ان کی ادائیگی نہیں ہوئی۔

جنرل سنورز

اٹھائیس جون کو جنرل سنورز کراچی کا جو چیک بنک میں داخل کیا اس پر ابھی تک وصولی نہیں ہوئی۔

برائے معاوضہ وصولی

بنک نے تاجر کے کھاتہ کو 1,000 روپے سے ڈیٹ کیا جو بنک نے 24 جون کو برائے معاوضہ وصولی چیک کے طور پر چارج کئے۔

منافع کریڈٹ کیا

تیس جون کو بنک نے 8,000 روپے منافع کریڈٹ کیا جس کا اعزاز کار پوریشن کو علم نہیں۔

اعزاز کارپوریشن

کیونکہ اعزاز کارپوریشن کی کیش بک کا بنک بیلنس ڈیٹ ہے یعنی پاس بک کا بیلنس کریڈٹ ہے اس لئے دونوں طریقوں سے بینک کی کیفیت نامہ تطابق تیار کرتے وقت طریقہ اول (الف) اور طریقہ دوم (ب) استعمال کریں۔

ہم اُمید کرتے ہیں آپ کو "کیش بک کے بنک بیلنس سے شروع کر کے" کے بارے میں مکمل آگاہی مل گئی ہوگی۔۔۔

مزید معلومات کیلئے ہمارے اس لنک پر کلک کریں👉

ہماری ویب سائٹ پر آنے کیلئے شکریہ